

# اب، آپ کی تمام تر کارروائیاں آن لائن طریق پر ہوتی ہیں

بعض خدمات اور مدد پر رسائی کے لیے کونسل بارسیلونا کی سماجی حقوق، عالمی انصاف، حقوق نسواں اور LGTBI کے شعبہ جات میں انٹرنیٹ کے ذریعہ کارروائی کے لیے موبائل idCAT ہونا ضروری ہے۔

موبائل idCAT شناخت اور دستخط کرنے اور انتظامیہ کے ساتھ انٹرنیٹ پر کارروائیاں انجام دینے کے لیے ایک محفوظ، آسان اور تیز طریقہ ہے۔

## موبائل idCAT پر رجسٹر کریں



Ajuntament de  
Barcelona



# موبائل idCAT پر رجسٹر کریں

1. براؤزر میں داخل ہوں، idcatmobil.cat پر رسائی کریں اور جہاں "Obtener mi idCAT Móvil" لکھا ہو اس پر کلک کریں۔

2. آپ اپنے DNI یا غیر ملکی کارڈ (TIE) کے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کہ:

- آپ کی عمر کم از کم 16 سال ہو۔
- صحت کارڈ CatSalut کا حامل ہونا یا Muface کا حامل یا اس سے مستفید ہونا۔
- موبائل ٹیلیفون اور ای میل پتہ کا حامل ہونا۔

3. اس کے بعد، آپ کو مطالبہ کردہ بنیادی معلومات درج کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہو گی۔

4. اپنے موبائل نمبر کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کوڈ والا ایک SMS موصول کریں گے جسے آپ نے رجسٹریشن مکمل کرنے کے لیے داخل کرنا ہو گا۔

5. آخر پر، آپ کو موبائل idCAT میں رجسٹریشن کی تصدیق کے لیے ای میل موصول ہو گی۔

اگر آپ کے پاس صحت کارڈ نہ ہی Muface ہے، تو آپ ایک سیلفی کے ساتھ idcatmobil.cat ویب پر ہی موجود ویڈیو شناخت نظام کے ذریعہ رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔

موبائل idCAT پر رجسٹریشن کے لیے اگر آپ کو مدد درکار ہو تو **010** پر کال کریں۔

اگر رجسٹریشن کے عمل کے دوران آپ کو مشکلات درپیش ہوں، تو **900905090** پر آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ، مزید معلومات اور روبرو مدد کے مقامات کے لیے ملاحظہ کریں ویب

**barcelona.cat/serveissocials**

بارسیلونا کی سماجی خدمات، آپ کے ساتھ ہیں